



OPENACCESS

Al-Azwa' الإضواء

ISSN 2415-0444 ;E 1995-7904

Volume 37, Issue, 58, 2022

www.aladwajournal.com

سند (مالک عن نافع عن ابن عمر)، محدثین اور مستشرقین کا نقطہ نظر

Chain (Mālik-from-Nāfi'-from-Ibn-e-Umar) Muhaddithīn & Orientalists point of view

Mahmood Ahmad (corresponding author)

Assistant Professor, Department of Islamic Studies,

The Islamia University of Bahawalpur, Bahawalnagar Campus, Bahawalnagar

Muhammad Afzal, Assistant Professor

Institute of Islamic Studies, University of the Punjab, Lahore

Abstract

KEYWORDS

Hadīth;
Muhaddithīn; Mālik-an-Nāfi'-an-Ibn-e-Umar; Orientalists;
Joseph Schacht;
Juynboll.



Date of Publication:
30-12-2022



By preserving and narrating hadīth, a chain of narrators was started to maintain its authenticity. When the experts of hadīth realized that some unreliable transmitters might try to fabricate Hadīth, this work started more systematically. Even the chain gradually attained such importance that every Muhaddith was concerned much about it. In the second century of Hijra, when the teaching and learning of hadīth became the standard of honour and great respect, some people devoted their lives to this work. They travelled to many countries of the world and obtained knowledge of Hadīth from prominent scholars of their time. Experts of Asmā-ul-Rijāl awarded them the certificate of holding the highest position of trust and credibility. The chains having such trustworthy transmitters are considered to be of higher rank than others. Among such traditions, there is also one "Mālik-an-Nāfi'-an-Ibn-e-Umar". Due to the reliability of its narrators, Imām Bukhāri and many other Muhaddithīn considered it a "golden chain". When some of the Orientalists started raising objections to the Prophetic Hadīth, they criticized the narrators of the Hadīth as well. Especially on the narrators who were

declared trustworthy and reliable by Muslim scholars. For this, they especially criticized Abū Huraira from among the companions and Imām Zuhri among the Successors. The chain of hadīth, (Mālik an-Nāfi' an-Ibn e Umar) "golden chain" was also seriously criticized by Joseph Schacht and Juynboll etc. In this article, a comparative study of the viewpoints of the Muhaddithīn and the Orientalists regarding the chain "Mālik an-Nāfi' an-Ibn Umar" is presented.

حضرت محمد ﷺ کو بعض خصوصی امتیازات و اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ ان امتیازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی احادیث کو محفوظ اور نقل و روایت کرتے ہوئے اس کی استنادی حیثیت برقرار رکھنے کے لئے اسناد کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ جب ماہرین حدیث نے محسوس کیا کہ کچھ ناقابل اعتبار اور ضعیف راویوں وضع حدیث میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لئے کام مزید اہتمام سے کیا جانے لگا۔ یہاں تک کہ بتدریج سند کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ ہر محدث کو سب سے زیادہ سند کی فکر رہتی۔ محدثین کے ہاں جس متن کی جتنی اسناد ہوتی وہ اتنی احادیث شمار کی جاتیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی متن بغیر اسناد یا کمزور اسناد سے مروی ہوتا تو وہ اسے کوئی اہمیت نہ دیتے۔

امام شعبہ بن الحجاج کا قول ہے:

"کل حدیث لیس فیہ حدثنا أو أخبرنا فہوخل وبقل"¹

"جس حدیث میں حدثنا یا خبرنا (یعنی سند) نہ ہو تو اس کی حیثیت ساگ سبزی سے زیادہ نہیں ہے۔"

امام محمد بن شہاب الزہری کا قول ہے:

"لا یصلح ان یرقی السطح الا بدرجۃ"²

"سیڑھی کے بغیر چھت پر چڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔"

دوسری صدی ہجری میں جب حدیث کی تعلیم اور تعلم عزت و شرف کا معیار ٹھہری تو کچھ لوگوں نے اس کام میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ یہ لوگ علم کا مینار ٹھہرے۔ اسماء الرجال پر کلام کرنے والوں نے انہیں ثقاہت و اعتبار کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔

امام یحییٰ بن شرف النووی لکھتے ہیں:

"جس کی عدالت اہل علم میں مشہور ہو اور اس وصف کے ساتھ اس کی تعریف کا چرچا ہو تو اس کی

عدالت کے اثبات میں اتنا ہی کافی ہے۔ جیسا کہ امام مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اوزاعی،

شافعی، احمد اور ان جیسے دوسرے لوگ ہیں۔"³

امام احمد بن حنبل سے جب اسحاق بن راہویہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا:

"مثل اسحاق یسئل عنہ، اسحاق عندنا امام من ائمة المسلمین"⁴

”اسحاق جیسے شخص کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اسحاق تو ہمارے نزدیک مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہیں۔“

یحییٰ بن معین سے ابو عبید القاسم بن سلام کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا:

”مثلی یسنئل عن ابی عبید؟ أبو عبید یسأل عن الناس“⁵

”مجھ جیسے سے ابو عبید کے متعلق پوچھا جاتا ہے؟ (حقیقت تو یہ ہے) ابو عبید سے لوگوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔“

جن اسناد میں ایسے ثقہ رواۃ موجود ہوں وہ دوسری اسناد سے اعلیٰ درجہ کی شمار کی جاتی ہیں۔ ایسی اسناد میں ایک "مالک عن نافع عن ابن عمر" بھی ہے۔ اس کے راویوں کی ثقاہت کی وجہ سے امام بخاری اور دیگر کئی محدثین نے اسے "سلسلۃ الذہب" شمار کیا ہے۔⁶ امام مالک کہتے ہیں جب مجھ تک کوئی روایت مالک عن نافع کے واسطے سے پہنچ جائے تو پھر مجھے کسی دوسری سند کی پرواہ نہیں ہوتی۔⁷

اگر ضعیف راوی کی روایت ایسے کسی ثقہ راوی کے خلاف ہو تو اس کی روایت منکر کہلاتی ہے اور ناقابل قبول شمار ہوتی ہے۔⁸ اگر کوئی مقبول راوی مرتبہ میں اپنے سے فائق راوی کے خلاف روایت کرے تو ایسی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے۔⁹

مستشرقین کا نقطہ نظر:

بعض مستشرقین نے محدثین پر یہ کہہ کر نقد کیا کہ انہوں نے سارا زور محض سند کی تحقیق و تفتیش پر صرف کیا ہے۔ اس لئے وہ نقد متن کے پہلو کو کما حقہ اہمیت دینے سے قاصر رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے راویان حدیث پر طعن کیا۔ خصوصاً ایسے رواۃ جن کو مسلم ماہرین اسماء الرجال نے ثقہ و ثبت قرار دیا تھا۔ بلکہ ان کو وضع حدیث کی علامت اور وضاعین کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔ جوزف شناخت اور جان بال نے اس کے لئے Common Link اور Partial Common Link کی اصطلاحات وضع کیں۔ اس کے لئے انہوں نے خصوصاً طبقہ صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور تابعین میں امام زہری کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ کتب حدیث میں سے خاص طور پر الجامع الصحیح للبخاری اور اسناد حدیث میں سلسلۃ الذہب کے رواۃ (مالک عن نافع عن ابن عمر) کو مشکوک اور ناقابل اعتبار ثابت کرنے کی کوشش کی۔

پروفیسر جوزف شناخت کے خیال میں کسی بھی روایت میں خاندانی اسناد کی موجودگی ہی اس بات کی واضح دلیل

ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب "The Origins of Muhammadan

“Jurisprudence” کے پانچویں باب میں اس پر بحث کی ہے انھوں نے مثال کے لیے مشہور مسند ”مالک عن نافع عن ابن عمر“ کا انتخاب کیا ہے اور یہ انتخاب اتفاقی نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ بطور خاص اس لیے کہ اسے محدثین کے ہاں اگر سب سے بہتر نہیں تو چند بہترین اسناد میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ گویا اس کی حیثیت مشکوک ٹھہرا کر وہ یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ جب سلسلۃ الذہب سمجھی جانے والی خاندانی سند کی یہ حالت ہے تو باقی اسناد پر تو بالکل بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

پروفیسر جوزف شناخت ”مالک عن نافع عن ابن عمر“ پر اعتراض کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

"But as Nafi' died in A.H.117 or thereabouts, and malik in A.H.179, their association can have taken place, even at the most generous estimate, only when malik was little more than a boy."¹⁰

”لیکن جیسا کہ نافع کی وفات کم و بیش ۱۱۷ ہجری اور مالک کی ۱۷۹ ہجری ہے (حاشیے میں لکھتے ہیں کہ امام مالک کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی مستند معلومات نہیں ہیں) اگر انتہائی فیاضی سے بھی اندازہ لگائیں تو ان کی رفاقت اس وقت ہوئی ہوگی جب مالک بلوغت کے قریب تھے۔“

امام مالک بن انس کی تاریخ پیدائش سے متعلق شناخت کا دعویٰ محل نظر ہے۔ کیونکہ:

- 1- محدثین کا تقریباً اتفاق ہے کہ امام مالک بن انس ۹۳ ہجری میں پیدا ہوئے۔ کئی معتبر ماخذ میں امام مالک بن انس کا سال پیدائش وہ بیان کیا گیا ہے جو مشہور صحابی رسول انس بن مالک کا سال وفات (یعنی ۹۳ ہجری) ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت امام مالک کی عمر ۲۴ برس تھی۔¹¹
- 2- امام مالک بن انس کے حصول علم کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ انھوں نے تقریباً ۱۱۰ھ میں، جب حسن بصری کی وفات ہوئی حصول علم حدیث کا آغاز کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت نوجوان تھے۔¹²
- 3- شعبہ کا بیان ہے کہ نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے ایک سال بعد امام مالک بن انس کا حلقہ درس حدیث قائم ہو گیا تھا۔ جہاں دور دراز سے تشنگان حصول علم حدیث کے لیے آتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت امام مالک بن انس بچے نہیں تھے۔¹³
- 4- معلوم ماخذ کی اکثریت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کی وفات ۱۷۹ ہجری میں ہوئی۔ جب ان کی عمر ۸۶ برس تھی۔¹⁴ اس سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ ان کی پیدائش ۹۳ ہجری ہے۔

الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مالک ۲۰ برس کی عمر کے قریب اپنے شیخ نافع سے ملے ہوں گے۔ کیا ہم کتب میں اس کے اور بھی کئی دلائل موجود ہیں۔¹⁵

مستشرق James Robson نے بھی جو زفتا سخت کے مندرجہ بالا اعتراض کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں:

"I prefer to believe that such passages indicate that Malik really did meet and hear from Nafi."¹⁶

”میں یہ ماننے کو ترجیح دیتا ہوں کہ ایسے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالک واقعی نافع سے ملے اور سماع کیا ہو گا۔“

پروفیسر جوزف شناخت کا دوسرا بڑا اعتراض اس سند (مالک عن نافع عن ابن عمر) پر یہ ہے کہ چونکہ نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ لہذا یہ خاندانی اسناد میں سے ہے اور خاندانی اسناد ناقابل اعتبار ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

"As Nafi' was a freedman of Ibn 'Umar, the isnad Nafi' Ibn Umar is a 'family isnad', a fact which, as we have seen, is generally an indication of the spurious character of the traditions in question. We saw further that Nafi' often alternates with Salim, 'Abdallah b. Dinar, and Zuhri, in other words, that these transmitters of traditions from Ibn 'Umar appear at random. This makes us doubt whether the historical Nafi' is responsible for everything that was ascribed to him in the following generation, and we shall find this doubt confirmed later in this chapter."¹⁷

”جیسا کہ نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اسناد، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک خاندانی اسناد ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، جیسا کہ ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، (یہ) زیر بحث حدیث کے وضعی ہونے کی علامت ہے۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ نافع اکثر، سالم، عبداللہ بن دینار اور زہری کے ساتھ بدل جاتے ہیں، دوسرے الفاظ میں، یہ راویان حدیث ابن عمر سے انکل پچو سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں شک میں ڈالتی ہے کہ آیا تاریخی (شخصیت) نافع ہر اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو آئندہ نسل میں ان سے منسوب کی گئی اور اس باب میں بعد میں ہم اس شک کی توثیق دیکھیں گے۔“

اگر کوئی حدیث کسی ایسے شخص سے بیان ہو جو سند میں اپنے سے اوپر والے راویان کا قریبی رشتہ دار یا تعلق دار ہو یا کسی وجہ سے ان کی باہم لمبی رفاقت موجود ہو تو سادہ اور سیدھی سی بات تو یہی ہے کہ دیگر عام روایات سے بھی اس کے قابل قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گونگے یا بہرے تو تھے نہیں، کہ نہ بولتے ہوں اور نہ ہی سنتے ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے روایات نہ لیں یا دیں۔ لیکن مستشرقین اور بطور خاص جوزف شاخت کو ہر ایسی بات پر بھی اعتراض ہے جو باعث اطمینان ہونی چاہیے تھی۔ اگر خاندانی اسناد سے بیان کردہ مرویات بہت کم ہوتیں تو یہ اعتراض بن جاتا کہ اس محدث کے رشتہ داروں نے دوسرے لوگوں سے روایات اخذ کی ہیں۔ اپنے آقا یا قریبی سے کیوں نہیں لیں۔ جیسا کہ بعض مستشرقین کا اعتراض ہے کہ قلیل الصحبت یا تاخیر سے اسلام قبول کرنے والے صحابہ (خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ) کی روایات قدیم الاسلام اور طویل الصحبت صحابہ (ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ) سے زیادہ کیوں ہیں۔ جب مقصد پہلے سے طے ہو کہ کیڑے نکالنے ہیں تو پھر اس قبیل کے اعتراضات بعید نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ جب باپ، بیٹا یا آقا و غلام دونوں درس و تدریس حدیث سے وابستہ ہوں گے تو چھوٹا بڑے سے روایات تو بیان کرے گا۔ لیکن پروفیسر جوزف شاخت کو یہ بھی وضع حدیث کی علامت نظر آتی ہے۔

ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی کے بقول:

"If a statement of a father about his son or vice versa, or a wife about her husband, or a friend about a friend, or a colleague about a colleague is always unacceptable, then on what basis could a biography possibly be written? Early scholars researched this category thoroughly and dismissed suspect isnad and ahadith. It is, therefore, unnecessary to refer further to the examples Schacht advances in this part of his case."¹⁸

”اگر باپ کا اپنے بیٹے سے متعلق یا اس کے برعکس یا بیوی کا اپنے خاوند کے یا دوست کا دوست کے یا شریک کار کا شریک کار کے متعلق بیان ہمیشہ ناقابل قبول ہے تو پھر سیرت نگاری کیونکر ممکن ہے؟ پہلے علماء نے اس قسم کی مکمل طور پر تحقیق کی ہے اور ذرا سے شبہ پر اسناد اور احادیث کو خارج کر دیا۔ اس لیے اس معاملے میں شاخت کی بیان کردہ مثالوں کا مزید حوالہ دینا غیر ضروری ہے۔“

پروفیسر جوزف شاخت کے خاندانی اسناد پر اعتراض کی کوئی علمی یا منطقی بنیاد موجود نہیں ہے۔ وہ صرف اس شک کی بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہیں کہ راویوں نے اپنی جعل سازی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے ایسے نام اسناد میں شامل کر

دیئے ہیں۔ حالانکہ محدثین نے کسی بھی حدیث کو محض خاندانی اسناد کی وجہ سے قبول ہی نہیں کیا۔ بلکہ خاندانی اسناد کو بھی تحقیق و تفتیش کے انہی کڑے اور منطقی مراحل سے گزرنا پڑا جہاں سے دیگر تمام اسناد گزری ہیں۔ جو محدثین کے قائم کردہ انتہائی معیار پر پوری اتزی صرف وہی قابل قبول ٹھہری باقی موضوع قرار پائی۔ اس میں خاندانی یا غیر خاندانی سند سے بیان ہونا کوئی پیمانہ یا معیار ہی نہیں ہے۔ کتب اسماء الرجال میں ایسی کتنی ہی امثلہ موجود ہیں کہ محدثین نے خاندانی اسناد کو ان کے کسی ضعف کی وجہ سے ناقابل قبول قرار دیا۔

اگر محدثین کے نزدیک خاندانی اسناد بغیر جرح و تنقید مقبول سمجھی جاتیں پھر تو پروفیسر جوزف شناخت کے اس اعتراض میں کوئی وزن سمجھا جاسکتا تھا۔ لیکن جب خاندانی اسناد کو کوئی استثناء یا برتری حاصل ہی نہیں تھی۔ تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ لوگ اپنی بات کو سچ باور کروانے کے لیے ایسی اسناد وضع کرنے لگے۔ حقیقت یہی ہے کہ خاندانی اسناد بھی عام اسناد کی طرح اصلی اور حقیقی ہیں۔

جانن بال نے خصوصاً نافع مولیٰ ابن عمر پر یوں تبصرہ کیا کہ ان کی ذات کو ہی مشکوک قرار دیا کہ اس نام کا کوئی راوی حقیقت میں موجود بھی تھا یا نہیں۔ ان کے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

- 1- امام مالک بن انس کا نافع مولیٰ ابن عمر کا شاگرد ہونا تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہوتا۔
- 2- نافع مولیٰ ابن عمر کی وہ روایات جو امام مالک کے علاوہ دیگر شاگردوں سے مروی ہیں وہ بھی کتب ستہ کے مولفین یا بعد کے کسی دوسرے راوی کی وضع کردہ ہیں۔
- 3- کتب ستہ میں موجود وہ روایات جن کی اسناد میں نافع عن ابن عمر ہے وہ نافع تک نہیں زیادہ سے زیادہ امام مالک بن انس تک جاتی ہیں کیونکہ۔

i- دوسرے اہم راویان حدیث کی نسبت نافع کی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات میسر ہیں۔

ii- ان کی زندگی کے بارے میں جو معلومات میسر ہیں وہ مختلف فیہ ہیں۔

iii- طبقات کی وہ ابتدائی کتب جو مدینہ کے تابعین پر ہیں ان کے حالات زندگی ان میں مذکور نہیں ہیں۔

iv- امام مالک اور نافع کی عمروں کا فرق اسے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بنا دیتا ہے کہ وہ نافع کے شاگرد رہے ہوں

گے۔¹⁹،²⁰

ذیل میں ان کے دلائل کا جائزہ لیا جائے گا۔

1- جانن بال کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ "دوسرے اہم راویان حدیث کی نسبت نافع کی زندگی کے متعلق بہت

کم معلومات میسر ہیں"۔ کتب رجال میں اور بھی کئی ایسے اہم راویان حدیث موجود ہیں جن کی معلومات کم ہیں۔ اس

بنیاد پر ان کی روایات کیسے رد کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً طبقات کی اہم اور قدیم ترین کتاب طبقات ابن سعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد ہمام بن منبہ کے بارے میں جنہوں نے "صحیفہ صحیحہ" جیسا اہم ترین مجموعہ حدیث مدون کیا صرف اتنا تبصرہ موجود ہے کہ وہ ابنائے فارس میں سے تھے۔ اپنے بھائی وہب بن منبہ سے بڑے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں اور ان سے بہت روایت کی ہے۔ وفات وہب سے پہلے 101 یا 102 ہجری میں ہوئی، کنیت ابو عقبہ تھی۔ اسی طرح عبید اللہ بن ابی رافع پر صرف اتنا تبصرہ ہے کہ وہ نبی ﷺ کے مولیٰ تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور وہ ان کے کاتب تھے، ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔²¹ سعید بن یسار ثقہ اور کثیر الحدیث تھے لیکن ان کا تذکرہ صرف 2 سطور میں ہے۔²² الغرض ایسی بہت سی امثلہ موجود ہیں کہ کسی بڑے اہم راوی کا تذکرہ کتب رجال میں انتہائی مختصر ہو۔ اسی طرح کئی روایات حدیث ایسے بھی ہیں جو قلیل الحدیث ہیں لیکن ان کا تذکرہ بہت مفصل ہے۔ جیسے مشہور اموی خلیفہ مروان بن حکم، جو حدیث کے قابل ذکر راویوں میں شمار نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود طبقات ابن سعد میں ان کا تذکرہ سات صفحات سے بھی زیادہ ہے۔²³ الغرض یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ زیادہ روایت کرنے والے حضرات کا ذکر مفصل اور کم روایت کرنے والوں کا ذکر مختصر ہونا چاہئے۔

2- دوسرا اعتراض یہ ہے کہ "ان کی زندگی کے بارے میں جو معلومات میسر ہیں وہ مختلف فیہ ہیں"۔ حقیقت یہ ہے کہ نافع مولیٰ ابن عمر کے بارے میں کتب رجال میں ایسا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے جس سے ان کی ثقاہت پر کوئی حرف آتا ہو۔ یا ان کی مرویات ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہوں۔ ان کی اصل اور تاریخ وفات میں معمولی اختلاف ضرور موجود ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت سرے سے موجود ہی نہیں رہی۔ تاریخ پیدائش و وفات میں تو بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں ایک سے زائد آراء موجود ہیں۔ تو کیا اس سے ان سب کے بارے میں ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ سب فرضی شخصیات ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ پیدائش تو رسول اللہ ﷺ کی بھی مختلف فیہ ہے۔ کئی غزوات کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ غزوات ہوئے ہی نہیں۔

جہاں تک ان کی اصل کا مسئلہ ہے بات اتنی ہے کہ وہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ یہ زمانہ کثرت غزوات کا تھا انہی غزوات میں نافع بھی حاصل ہوئے۔ اسلام نے غلامی کے مسئلے کے موثر حل کے لئے ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ اس زمانے میں موالیٰ کی کثرت تھی۔ ان کے اصل وطن کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں:

(قال ابن معین: كان ديلميا ، وقال غيره : كان من (أهل) أبرشهر ، وقيل كان أصله من المغرب ، أصابه عبد الله بن عمر في غزاته)²⁴

ابن حبان نے مشاہیر علماء الامصار میں ان کی اصل ابر شہر ذکر کی ہے۔ ابن ابی حاتم نے "الجرح والتعديل میں ابر شہر یا اہل مغرب لکھا ہے۔ ابن منجویہ کا "رجال صحیح مسلم" میں یہی موقف ہے۔ ابن سعد نے بھی ابر شہر لکھا ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر محدثین نے ان کی نسبت ابر شہر کی طرف ہی کی ہے۔ اگرچہ بعض نے ایک سے زائد آراء کا بھی اظہار کیا ہے لیکن بہر حال یہ کوئی ایسا مختلف فیہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کو ہی ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ مزید برآں متعدد ایسے موالی موجود ہیں جن کے وطن کا تذکرہ ہی کتب رجال میں نہیں پایا جاتا تو پھر نافع کے وطن میں اتنا تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر ایسی بڑی بات کیونکر ہو سکتا ہے۔ جائن بال نے نافع مولیٰ ابن عمر کی شخصیت کو فرضی قرار دینے کے لئے جو اعتراضات کئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی اصل کی طرح تاریخ و وفات بھی متنازع ہے۔ حالاں کہ اکثر ذرائع نے ان کی وفات 117 ہجری بیان کی ہے²⁵ اگرچہ بعض نے 119 یا 120 ہجری²⁶ کا موقف بھی اختیار کیا ہے لیکن یہ شاذ ہے۔ کتب رجال میں کئی ایسے راویان موجود ہیں جن کی تاریخ و وفات مذکور ہی نہیں یا مختلف فیہ ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی وجہ نہیں جس سے ہم اس راوی کا ہی انکار کر دیں۔ خصوصاً جب ہمیں اس کے متعلق اور کئی معلومات بکثرت ملتی ہوں۔ جیسا کہ ان کے کئی اساتذہ کا ذکر موجود ہے۔

امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے شیوخ کے بارے میں لکھا ہے:

”روى عن ابن عمر ، وعائشه ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ، وأم سلمة ، وأبي لبابة بن عبد المنذر ، وصفية بنت أبي عبيد زوجة مولاة ، وسالم وعبد الله وعبيد الله وزيد أولاد مولاة ، وطائفة“²⁷

نیز ان سے روایت کرنے والوں میں ایک خلق کثیر شامل ہے۔ امام ذہبی نے پچاس سے زائد راویوں کے نام ذکر کرنے کے بعد آخر میں خلق کثیر کا الفاظ لکھے ہیں۔ ان راویوں میں ابن شہاب الزہری ، ایوب السختیانی ، عبید اللہ بن عمر ، وحید الطویل ، وأسامة بن زید اور ابن جریج جیسے کئی معتبر نام شامل ہیں۔²⁸ گویا نافع کی شخصیت کی نفی کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام رواۃ نے کذب بیانی کرتے ہوئے نافع کا نام وضع کیا۔ کیا عقلی اور منطقی طور پر بھی جائن بال کے اس دعوے کی تائید کی جاسکتی ہے۔ یہ تمام حقائق اس بات پر شاہد ہیں کہ مستشرقین کے اس اعتراض کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ اسی طرح ماہرین اسماء الرجال نے نافع مولیٰ ابن عمر کی ثقاہت پر بھی اتفاق کیا ہے۔²⁹ جائن بال کے دعوے کو درست تسلیم کرنے کی صورت میں وہ تمام ائمہ جرح و تعدیل بھی ناقابل اعتبار قرار پائیں گے جنہوں نے ان کو ثقہ، ثبت اور اس جیسے دیگر القاب سے نوازا ہے۔ گویا جائن بال اپنی ذرا سی تشکیک کو بنیاد بنا کر علوم الحدیث کے تمام ذخیرہ اور ماہرین کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔

3۔ نافع مولیٰ ابن عمر کی شخصیت کے انکار کی ایک بڑی دلیل جائن بال نے یہ دی ہے کہ طبقات کی ابتدائی کتب میں تابعین مدینہ کے ذکر میں ان کا نام موجود نہیں ہے۔

Joseph Schacht کی ایک تھیوری Argument e Silentio (دلیل سکوت)³⁰ کو استعمال کرتے ہوئے اس سے جائن بال نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ابتدائی ماخذ میں نافع مولیٰ ابن عمر کا عدم ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخصیت بعد میں فرضی طور پر وضع کی گئی ہے۔³¹ اپنی روایات کو مستند باور کروانے کے لئے بعد میں جس کا نام بکثرت استعمال ہوتا رہا ہے۔ اگر واقعی اس نام کا کوئی مشہور راوی موجود ہوتا تو طبقات ابن سعد جیسی رجال کی امہات کتب میں اس کا تذکرہ ضرور شامل ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں ان کتب میں ان کا نام نہیں ملتا۔ جب کہ بعد والے ماخذ ان کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نام بعد میں استعمال کیا گیا ہے۔

فرض کریں اگر بعض ابتدائی کتب رجال میں نافع کا ذکر نہ بھی پایا جاتا ہو تو کیا یہ دلیل سکوت کی وجہ سے اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ اس نام کا کوئی راوی موجود ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی اس تھیوری کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کا کوئی مصنف دنیا کے بڑے شہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لندن کا نام چھوڑ دے تو بعد کے وہ تمام مصنفین جنہوں نے لندن کا نام دنیا کے بڑے شہروں میں شمار کیا ہو ان کو مجرم سمجھا جائے گا کہ انہوں نے غلط طور پر اتفاق رائے سے ایک افسانوی شہر بنا ڈالا۔³² کیا ابن سعد یا کسی دوسرے مصنف نے کہیں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس طبقے کے تمام رواۃ کا ذکر کر دیا ہے اور کوئی بھی راوی رہ نہیں گیا۔ نیز کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ان مخطوطات کا کوئی حصہ کسی پبلشر تک نہ پہنچ سکا ہو اس لئے وہ کسی خاص ایڈیشن میں شائع ہونے سے رہ گیا ہو۔ بطور خاص جب وہ خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بعد والے کئی مصنفین نے ابن سعد کے حوالے سے اپنی کتب میں نافع کے حالات درج بھی کئے ہیں۔ لیکن وہ ان مصنفین کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ابن سعد نے طبقات میں ان کا ذکر کیا ہو گا۔³³

جب ہم طبقات ابن سعد کا وہ ایڈیشن دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تابعین مدینہ کے ضمن میں تیسرے طبقے کے متصل بعد چھٹے طبقہ کا ذکر ہے۔ نیز طبقہ ثالثہ کی آخری بائیوگرافی عمر بن عبدالعزیز کی ہے جس کی آخری روایت درمیان میں یوں ختم ہو رہی ہے۔ "وصیب بن الورد سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا عمر بن عبدالعزیز کی جب وفات ہو گئی تو فقہاء ان کی بیوی کے پاس تعزیت کرنے آئے اور کہا کہ ہم اس لئے آپ کے پاس آئے ہیں کہ عمر کی تعزیت کریں کیوں کہ۔۔۔"³⁴ اس کے متصل بعد طبقہ سادسہ ہے اس کا آغاز اس طرح ہے۔ "بن رافع بن خدیج و طماح ان کی والدہ ام یحییٰ بنت طماح ابن عبدالحمید بن رافع بن خدیج تھیں۔ محمد کی کنیت

ابو عبد اللہ تھی"۔³⁵ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف طبقہ رابعہ اور طبقہ خامسہ مکمل غائب ہیں بلکہ طبقہ سادسہ کا ابتدائی حصہ بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جائن بال کو یہ سیدھی سی حقیقت دکھائی نہیں دیتی اور وہ نافع کی تاریخی حیثیت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں نافع کی متعدد مرویات موجود ہیں۔ عبد اللہ بن عمر کے ترجمہ کے ذیل میں بھی بکثرت نافع کا ذکر موجود ہے۔ لیکن جائن بال اسے بھی دلیل سکوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان مرویات سے ہرگز ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا کہ وہ کوئی تاریخی شخصیت یا حدیث کے بڑے اہم راوی تھے۔

جائن بال نے اپنی تھیوری "Argument e silentio" کے طور پر اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ امام نووی نے ابن سعد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے مصر کے مسلمانوں کو سنت کی تعلیم دینے کی غرض سے مصر بھیجا تھا۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو جائن بال کے خیال میں اسے الکندی کی "کتاب الولاة والقضاة" میں ضرور موجود ہونا چاہیے تھا۔ جب کہ وہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ روایت بعد میں وضع کی گئی ہے۔ حالانکہ کسی کتاب میں کسی روایت یا شخصیت کا عدم ذکر اس کے عدم کو کیسے لازم ٹھہرا سکتا ہے۔ اصل میں یہ (Argument e Silentio) تھیوری ان سے قبل پروفیسر جوزف شناخت نے بڑے زور و شور سے پیش کی اور اس کی بنیاد پر فقہی احادیث پر مشتمل تمام ذخیرہ حدیث کو بعد میں وضع کردہ قرار دیا تھا۔ اس پر مسلم سکارلز میں سے خصوصاً ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی³⁶ اور ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری³⁷ نے نقد کیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے پروفیسر شناخت کے "Argument e silentio" پر نقد کرتے ہوئے اس کے بالکل الٹ ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے بہت سی ایسی روایات کی نشاندہی کی ہے جو پہلے ماخذ میں موجود تھیں جب کہ متاخرین کی کتب میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔³⁸ مزید برآں طبقات ابن سعد کے اس حصے کا ایک مخطوطہ مل چکا ہے اور "الطبقات الكبرى: القسم المتمم لتابعی اهل المدينة و من بعدهم" (من ربع الطبقة الثالثة الى منتصف الطبقة السادسة) کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے۔³⁹ اس کے صفحہ 142-145 پر نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر کا تذکرہ موجود ہے۔

حاصل کلام:

خلاصہ یہ ہے کہ پروفیسر جوزف شناخت، جائن بال اور ایسے دیگر مستشرقین کا حدیث نبوی کے حوالے سے امت مسلمہ کے ہاں مستند ترین سمجھی جانے والی کتب، اسناد اور راویان حدیث کی صحت کو مشکوک قرار دینا محض

اتفاق نہیں ہے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ ذخیرہ حدیث کی صحت پر سوالات کھڑے کرنا ہے۔ نیز اگر ایسی مستند چیزیں غیر ثابت شدہ ہیں تو پھر نسبتاً کم مستند روایات و اسناد کیونکر قابل اعتماد قرار دی جاسکتی ہیں۔ اگر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن شہاب زہری جیسے ثقہ محدثین کی ثقاہت پر سوال کھڑے کر دیئے جائیں تو دیگر راویان کی کیا حالت ہوگی۔ اگر سلسلہ الذہب موضوع ہو جائے تو باقی اسناد پر کیسے بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالا تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ مستشرقین کے ان اعتراضات کی کوئی مضبوط علمی بنیادیں نہیں ہیں۔ محدثین نے نقد حدیث کے کڑے اصولوں پر جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو یہ درجہ دیا ہے اور یہ امت مسلمہ کے ہاں تسلیم شدہ ہے۔ مالک عن نافع عن ابن عمر محدثین کے ہاں مستند ترین اسناد میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ مالک بن انس کی اپنے استاد نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر سے ملاقات اور اخذ روایات ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا انکار تحقیقی اصولوں کا انکار ہے۔ نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر بھی ماہرین اسماء الرجال کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں ثقہ ترین راوی حدیث ہیں۔ عبد اللہ بن عمر سے ان کا اخذ و نقل حدیث ثابت شدہ امر ہے۔ رجال کی بعض ابتدائی کتب میں ان کے حالات زندگی کا عدم ذکر یا مختصر ذکر اس بات کا ثبوت نہیں کہ ایسی کوئی شخصیت اسلامی تاریخ میں موجود نہیں رہی اور ان کا نام سلسلہ سند کو جوڑنے کے لئے بعد میں کسی راوی نے وضع کیا ہے۔

حواشی و حوالہ جات

¹ الرامہ مزی، حسن بن عبد الرحمن، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، دار الفکر بیروت، ۱۹۷۱ء، ص ۵۱

Al Rāmhurmāzī, Hasan Bin Abdulrahmān, Al Muhaddith al Fāsil bāin alrāwī walwā'ī, Dārūlfiḳr, Beirūt, 1971 A.H, p517.*

² المرزوی، عبد الرحمن بن ابی حاتم، الجرح والتعدیل، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الاولى، ۱۹۵۲ء، ص ۱۶۲

Al Mirvazī, Abdulrahmān bin abi Hātim, Al Jarh wal Tadīl, daru ihyā al turāth al'arabi, Beirūt, first edition, 1925 A.D. vol, ii p14

³ النووی، یحییٰ بن شرف، التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر، تحقیق عبد الوہاب، عبد اللطیف، احیاء السنۃ النبویۃ، بیروت، الطبعة الثانیۃ، ۱۳۹۹ھ، ص ۷

Al Nauvī, Yahyā bin Sharf, Al Taqrib waltaisir le ma'rifati sunan albashir walnazar, research Abdulwahāb Abdul Latīf, ihyā alsunna alnabawiah, Beirut, 2nd edition 1399A.H, p7.

4- خطیب بغدادی، ابی بکر احمد بن علی، الکفایہ فی علم الروایۃ، دارالکتب الحدیثیۃ، القاہرہ، ص ۱۳۸
Khateeb Baghdadi, Abi Bakar, Ahmad bin 'Alī, Al Kifāyia fi ilmilriwāya, darulkutub alhaditha, al Qāhira, p148.

5- خطیب بغدادی، ابی بکر احمد بن علی، الکفایہ فی علم الروایۃ، ص ۱۳۸
Khateeb Baghdadi, Abi Bakar, Ahmad bin Ali, Al Kifāyia fi ilmilriwāya, p148.

6- المزنی، یوسف بن عبدالرحمن، جمال الدین، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، مؤسسة الرسالۃ، بیروت، الطبعة الاولى 1980،
476/14؛ ابن الصلاح، علوم الحدیث، النوع الاول، الحدیث الصحیح، انواع الصحیح ودرجات قوتہ، دارالفکر، 1425 ہجری،
ص 16

Al Muzī, Yoūsus bin Abdul Rahmān, Jamāludīn, Al kamāl fi asmāilrijāl, muassisa alrisāla, al Beirut A.H, v, 14/476; Ibn ulsalāh, Uloom ul Hadīth, al naw al awwal, al Hadīth al Sahīh, anwā' alsahīh wa darajāto quwwatehi, Darul fikr, 1425 A.H, p16.

7- المزنی، یوسف بن عبدالرحمن، جمال الدین، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، 303/29،
Al Muzī, Yousuf bin 'Abdul Rahmān, Jamāludīn, Al kamāl fi asmāilrijāl, vol, 29/303.

8- عسقلانی، احمد، ابن حجر، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، ملتان، ص 51، 50،
Asqalānī, Ahmad bin Hajar, Nuzhatul Nazr fi tawziḡ Nukhbatulfikr, Multan, p50, 51.

9- قاری، ملا علی، شرح نخبۃ الفکر، کوئٹہ، 1397 م، ص 87،
Qari. Mulla 'Alī, Sharah Nukhbatulfikr, Quetta, 1397 A.D, p87.

10. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford University press, 1953, p176, 177

11- الذہبی، محمد بن احمد، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء (مرتب: شعیب الارناؤط)، مؤسسة الرسالۃ، بیروت، ۱۹۸۵، ۴۹۸،
Al Dhahbī, Muhammad bin Ahmad, Shamsuldīn, Siyar i'lāmunnubalā (compiler: Sho'aib alarnāowt), mūassisa alrisāla, Beirut, 1985 A.D, vol, 8/49.

12- الصفدی، خلیل، الوافی بالوفیات، داراحیاء التراث العربی، ۲۰۰۰ء، ۲۱/۲۵،
Al Safdī, Khalīl, Alwāfi bil wafiyāt, daru ihyā al turāth alarbī, 2000 A.D, vol, 25/21.

13- بخاری، محمد بن اسماعیل، التاريخ الكبير، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، ۱۹۳۱، ۳۱۰/۳،
Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl, Al Tārīkh ul kabīr, majlis dāiratul mārif al Usmania, Haidarabad, 1921 A.D, vol, 4/310.

- 14 - الذہبی، محمد بن احمد، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء، ۸/۱۳۰
- Al Dhahbī, Muhammad bin Ahmad, Shamsuldīn, Siyar ilāmun-nubalā, vol, 8/130
- 15 - بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، ۳/۳۱۰؛ ابن حبان، کتاب الثقات، دار الفکر، بیروت، ۱/۱۹۸۸؛ السمعانی، عبد الکریم، الانساب، مجلس دائرة المعارف العثمانیہ، ۱/۱۹۶۲؛ ابن خلکان، احمد، وفيات الاعیان وانباء ابنا الزمان، دار صادر، بیروت، ۲/۱۹۷۷، ۱۳۵.
- Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il, Al Tārīkh ul kabīr, vol, 4/310; Ibn Hibbān, Kitāb althiqāt, Darulfikr Beirut, 1988 A.D, vol, 1/459; Alsam'āni, 'Abdulkarim, Alansāb, majlis dāiratul mā'rif al'usmania, 1942 A.D, vol, 1/1982; Ibn e Khallikān, Ahmad, Wafiātul a'īān wa anbā abnāizamān, dar e sādir, Beirūt, 1977 A.D, vol, 4/135
- 16 - Robson, James, The Isnād in Muslim Tradition, Glasgow University Oriental Society, 15, 1953, P23.
- 17 - Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, P177.
- 18 - Aāzmī, Muhammad Mustafa, On Schācht's Origins of Muhammadan Jurisprudence, Sohail Academy, Lahore. P197.
- 19- Juynboll, G.H.A, Encyclopaedia of Islam, Edition 2, Vol 7, p876
- 20- Juynboll, G.H.A, Nāfi the Maula of Ibn e Umar and his position in Muslim Hadīth Literature, Der Islam 70, (1993), 207-244
- 21 - محمد بن سعد، طبقات ابن سعد، (مترجم علامہ عبد اللہ عمادی)، نفیس اکیڈمی اردو بازار، کراچی، 5/221
- Muhammad bin S'ad, Tabqāt ibn e S'ad, (translator: 'Allama 'Abdullah 'Imādī), Nāfi's academy, Urdu bazaar, Karachī, vol, 5/221.
- 22 - محمد بن سعد، طبقات ابن سعد، 5/223
- Muhammad bin S'ad, Tabqāt ibn e S'ad, vol, 5/223.
- 23 - محمد بن سعد، طبقات ابن سعد، 5/51-58
- Muhammad bin S'ad, Tabqāt ibn e S'ad, vol, 5/51-58.
- 24 - ابن عبد البر، یوسف بن عبد اللہ، التہذیب لما فی الموطا من المعانی والاسانید، وزارة الاوقاف والشؤون المملكة العربية، ۱۹۷۹ء، ص 236
- Ibn e 'Abdul Barr, Yousuf bin 'Abdullah, Al Tamhīd limā fil Mauta min al m'ānī wal asānīd, wizāratul aouqāf washāūn, al mullikatul Arabīa, 1079 A.D p236.
- 25 - بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، البیروت، 85/2، vi؛ عسقلانی، احمد بن حجر، تقریب التہذیب، نیاز احمد مترجم، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، 2/235

Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, Al Tārīkh ul kabīr, al Bairūt, vol,2/ 85; 'Asqalāni, Ahmad bin Hajar, Taqrīb ul Tahzīb, (translator Niaz Ahmad), maktaba Rahmania, Lahore, vol,2/235.

26 - ابن حبان، محمد البتی، کتاب الثقات، عبد المعید خان (ایڈیٹر)، حیدر آباد، 467، v،

Ibn Hibbān, Muhammad al Bustī, Kitab althiqāt, (Editor, Abdul Mū'id Khan), Haidarabad, vol, 5/467.

27 - ذہبی، محمد بن احمد، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء، 95، نافع

Al Dhahbī, Muhammad bin Ahmad, ShamsulDīn, Siyar i'lāmunubalā, p95.

28 - ذہبی، محمد بن احمد، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء، ص 96

Al Dhahbī, Muhammad bin Ahmad, ShamsulDīn, Siyar i'lāmunubalā, p96.

29 - ابن حجر عسقلانی، تقریب التہذیب، 2/235

Ibn e Hajar, 'asqalan ī, Taqrīb ul Tahzīb, vol,2/235.

30 - حدیث پر کام کرنے والے مشہور مستشرق جوزف شناخت نے احادیث کو ناقابل اعتبار ثابت کرنے کے لئے جو مفروضے وضع کئے ان میں سے ایک "دلیل سکوت" ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب ہمیں کوئی روایت ابتدائی ماخذ میں نہیں ملتی جب کہ بعد والے ماخذ اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اس درمیانی یا بعد کے زمانے میں اس کے وضع ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

(Joseph, Schācht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, p140)

31- Nāfī the Maula of Ibn-e-'Umar and his position in Muslim Hadīth Literature, p217.

32- A'zmī, Muhammad Mustafa, On Schācht, s Origins of Muhammadan Jurisprudence, Sohail Academy, Lahore, p116

33- Nāfī the Maula of Ibn-e-'Umar and his position in Muslim Hadīth Literature, p218.

34 - محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، 5/307

Muhammad bin Sa'd, Tabqātul kubrā, vol,5/307.

35 - محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، 5/307

Muhammad bin Sa'd, Tabqātul kubrā, vol,5/307.

36- A'zmī, Muhammad Mustafa, On Schācht, s Origins of Muhammadan Jurisprudence, Sohail Academy, Lahore.

37 - Ansārī, Zafar Ishaq, The Authenticity of Traditions: A Critique of Joseph Schācht, s Argument-e-silentio, Hamdard Islāmīcus, 7 (1984), 51-61.

38- Ansārī, Zafar Ishāq, The Early Development of Islamic Fiqh in Kūfah with special reference to the works of Abū-Yoūsuf and Shaibanī, Ph. D Thesis Mcgill

University,1966.p237-241; The Authenticity of Traditions: A Critique of Joseph Schācht, s Argument-e-silentio, Hamdard Islamicus,7 (1984),56-57.

39- ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع، ابو عبد اللہ الهاشمی، الطبقات الکبریٰ: القسم المتعمم لتابعی اهل المدینة و من بعد هم، (دراسه و

تحقیق) زیاد محمد منصور، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینة المنورة، 1408ھ / 1987ء، ص 142-145

Ibn Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Munī', Abu Abdullah al Hashmī, Altabaqāt ul kubrā: al qism almutammim litāb'i ahlil Madīna wa min ba'dihim, (dirāsa wa tahqiq, Ziād Muhammad Mansur) maktabatul 'uloom walhikam, al Madīna almunawwara, 1408,A.H, 1987A.D.p142-145